

Lesson 6: Al-Maidah (Ayaat 51 - 66): Day 18

سُورَةُ الْمَائِدَةِ كِ تَفْسِير

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا		
يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا
اے	لوگو جو	ایمان لائے ہو
اے ایمان والو!		

لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۗ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ						
لَا	تَتَّخِذُوا	الْيَهُودَ	وَالنَّصْرَىٰ	أَوْلِيَاءَ	بَعْضُهُمْ	أَوْلِيَاءُ
مت	پکڑو	یہود کو	اور نصاریٰ کو	دوست	بعض ان کے	دوست ہیں
یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں						

وَمَنْ يَتَّوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ						
وَمَنْ	يَتَّوَلَّهُمْ	مِّنكُمْ	فَإِنَّهُ	مِنَّهُمْ	إِنَّ	اللَّهَ لَا يَهْدِي
اور	جو کوئی	دوست پکڑے ان کو	تم میں سے	پس بیشک وہ	انہیں میں سے ہے	بے شک اللہ
اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا۔ بیشک اللہ ظالم لوگوں کو						

الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ						
الظَّالِمِينَ	فَتَرَى	الَّذِينَ	فِي	قُلُوبِهِمْ	مَّرَضٌ	يُسَارِعُونَ
ظالموں کو	پس دیکھتا ہے تو	ان لوگوں کو کہ	بچ	ان کے دلوں کے	بیماری ہے	جلدی کرتے ہیں
ہدایت نہیں دیتا ﴿٥١﴾ تو جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا) مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے						

فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۗ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ						
فِيهِمْ	يَقُولُونَ	نَخْشَىٰ	أَنْ	تُصِيبَنَا	دَآئِرَةٌ	فَعَسَىٰ
ان کے	کہتے ہیں	ڈرتے ہیں ہم	یہ کہ	پہنچ جائے ہم کو	گردش زمانے کی	پس جلدی
ملے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آجائے۔ سو قریب ہے						

يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي						
يَأْتِي	بِالْفَتْحِ	أَوْ	أَمْرٍ	مِّنْ	عِنْدِهِ	فَيُصْبِحُوا
لے آوے	فتح	یا	کچھ بات	سے	نزدیک اپنے	پس ہو جائیں
کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر (نازل فرمائے) پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے						

أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُآءِ الَّذِينَ						
أَنْفُسِهِمْ	نَادِمِينَ	وَيَقُولُ	الَّذِينَ	آمَنُوا	أَهْلُآءِ	الَّذِينَ
اپنے دلوں کے	پشیمان	اور کہیں گے	وہ لوگ جو کہ	ایمان لائے ہیں	کیا یہی ہیں وہ لوگ	جو کہ
پشیمان ہو کر رہ جائیں گے ﴿٥٦﴾ اور (اُس وقت) مسلمان (تعب سے) کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں						
أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۗ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ						
أَقْسَمُوا	بِاللَّهِ	جَهْدَ	أَيْمَانِهِمْ	لَمَعَكُمْ	حَبِطَتْ	أَعْمَالُهُمْ
قسم کھاتے تھے	ساتھ اللہ کے	سخت	قسمیں اپنی	بے شک وہ	البتہ ساتھ تمہارے ہیں	ناپید ہوئے
جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اُن کے عمل اکارت گئے اور						
فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ ﴿٥٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ						
فَأَصْبَحُوا	خَسِرِينَ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	مَنْ	يَرْتَدَّ
پس ہو گئے	ٹوٹا پانے والے	اے	لو جو	ایمان لائے ہو	جو کوئی	پھر جائے گا
وہ خسارے میں پڑ گئے ﴿٥٧﴾ اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے						
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِلَّةٌ عَلَىٰ						
عَنْ	دِينِهِ	فَسَوْفَ	يَأْتِي	اللَّهُ	بِقَوْمٍ	يُحِبُّهُمْ
سے	دین اپنے	پس البتہ	لائے گا	اللہ	ایک قوم کو کہ	پیارا کرتا ہے ان کو
پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور وہ اُسے دوست رکھیں اور جو مومنوں کے						
الْمُؤْمِنِينَ ۖ أَعَزَّةٌ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ۖ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ						
الْمُؤْمِنِينَ	أَعَزَّةٌ	عَلَىٰ	الْكَافِرِينَ	يُجَاهِدُونَ	فِي	سَبِيلِ
مسلمانوں کے	تختی کرنے والے ہیں	اوپر	کافروں کے	جہاد کریں گے	بچ	راہ
حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے						
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ۚ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ						
وَلَا	يَخَافُونَ	لَوْمَةَ	لَائِمٍ	ذَلِكَ	فَضْلُ	اللَّهِ
اور نہیں	ڈریں گے	ملامت	کسی ملامت کرنے والے کی سے	یہ	بڑائی	اللہ کی ہے
یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے						
کی ملامت سے نہ ڈریں۔						

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا						
وَاللَّهُ	وَاسِعٌ	عَلِيمٌ	إِنَّمَا	وَلِيُّكُمُ	اللَّهُ	وَ رَسُولُهُ
اور اللہ	کشاہت والا ہے	جاننے والا ہے	سوائے اسکے نہیں کہ	دوست تمہارا	اللہ ہے	اور رسول اس کا اور جو لوگ ایمان لائے
اور اللہ بڑی کشاہت والا (اور) جاننے والا ہے ﴿٥٤﴾ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں						
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾						
الَّذِينَ	يُقِيمُونَ	الصَّلَاةَ	وَ	يُؤْتُونَ	الزَّكَاةَ	وَ هُمْ رَاكِعُونَ
وہ لوگ	قائم رکھتے ہیں	نماز کو	اور	ادا کرتے ہیں	زکوٰۃ کو	اور وہ رکوع کر نیوالے ہیں
جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور (اللہ کے آگے) جھکتے ہیں ﴿٥٥﴾						
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ						
وَمَنْ	يَتَوَلَّ	اللَّهُ	وَ رَسُولَهُ	وَ	الَّذِينَ	آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
اور کوئی	دوست رکھے	اللہ کو	اور اس کے رسول کو	اور	ان لوگوں کو کہ	ایمان لائے پس بیشک گروہ اللہ کے وہی ہیں
اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو (وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا اور) اللہ کی جماعت غالب ہے						
الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا						
الْغَالِبُونَ	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا	تَتَّخِذُوا	الَّذِينَ اتَّخَذُوا
غالب	اے	لوگو جو	ایمان لائے ہو	مت	پکڑو	ان لوگوں کو جو پکڑتے ہیں
پانے والی ہے ﴿٥٦﴾ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی						
دِينَكُمْ هُرُوا وَلِعِبَاءَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ						
دِينَكُمْ	هُرُوا	وَ لِعِبَاءَ	مِنَ الَّذِينَ	أُوتُوا	الْكِتَابَ	مِنَ قَبْلِكُمْ وَ الْكَفَّارَ
دین تمہارے کو	ٹھٹھا	اور کھیل	سے	ان لوگوں میں کہ	دیئے گئے ہیں کتاب	سے پہلے تم اور نہ کافروں کو
گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنی اور کھیل بنا رکھا ہے دوست						
أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى						
أَوْلِيَاءَ	وَ اتَّقُوا	اللَّهُ	إِنَّ	كُنْتُمْ	مُؤْمِنِينَ	وَ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى
دوست	اور ڈرو	اللہ سے	اگر	ہو تم	ایمان والے	اور جب پکارتے ہو تم طرف
نہ بناؤ اور مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو ﴿٥٧﴾ اور جب تم لوگ						

الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَ لَعِبًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

الصَّلَاةِ	اتَّخَذُوا	هُزُؤًا	وَ	لَعِبًا	ذَٰلِكَ	بِأَنَّهُمْ	قَوْمٌ	لَا	يَعْقِلُونَ
نماز کی	پڑتے ہیں اس کو	ٹھٹھا	اور	کھیل	یہ	بسبب اسکے ہے کہ	وہ ایک قوم ہیں	نہیں	سمجھتے

نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ ﴿٥١﴾

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ

قُلْ	يَا أَهْلَ	الْكِتَابِ	هَلْ	تَنْقِمُونَ	مِنَّا	إِلَّا	أَنْ	أَمَّنَّا	بِاللَّهِ	وَ	مَا	أُنزِلَ
کہہ	اے اہل	کتاب	نہیں	پڑتے عیب تم	ہم سے	مگر	یہ کہ	ایمان لائے	ساتھ اللہ کے	اور	اس نچے لگے	اتاری گئی ہے

کہو کہ اے اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سو اس کے کہ ہم اللہ پر اور جو (کتاب) ہم پر نازل ہوئی اس پر

إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ هَلْ

إِلَيْنَا	وَ	مَا	أُنزِلَ	مِنْ	قَبْلُ	وَ	أَنَّ	أَكْثَرَكُمْ	فَسِقُونَ	قُلْ	هَلْ
طرف ہماری	اور	جو	اتاری گئی ہے	اس سے	پہلے	اور	یہ کہ	بہت تمہارے	فاسق ہیں	کہہ	کیا

اور جو (کتابیں) پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں اور تم میں اکثر بدکردار ہیں ﴿٥٢﴾ کہو کہ میں

أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

أُنَبِّئُكُمْ	بِشَرِّ	مِمَّنْ	ذَٰلِكَ	مَثُوبَةٌ	عِنْدَ	اللَّهِ	مَنْ	لَعَنَهُ	اللَّهُ
خبر دوں	میں تمکو	ساتھ بدتر کے	سے	اس	جزا میں	نزدیک	اللہ کے	وہ شخص ہے کہ	لعنت کی

تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی

وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَ عِبَادَ

وَ	غَضِبَ	عَلَيْهِ	وَ	جَعَلَ	مِنْهُمْ	الْقِرَدَةَ	وَ	الْخَنَازِيرَ	وَ	عِبَادَ
اور	غصہ ہوا	اوپر ان کے	اور	کیے	ان میں سے	بندر	اور	سور	اور	بندگی کی

اور جن پر وہ غضب ناک ہوا اور (جن کو) ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے

الطَّاغُوتِ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

الطَّاغُوتِ	أُولَٰئِكَ	شَرٌّ	مَّكَانًا	وَ	أَضَلُّ	عَن	سَوَاءِ	السَّبِيلِ
شیطان کی	یہ لوگ	بدتر ہیں	جگہ میں	اور	بہت ہی نیچے جئے ہیں	سے	راہ	سیدھی

شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانا ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں ﴿٦٠﴾

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَلَوْنَا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا

وَ	إِذَا	جَاءُوكُمْ	قَالُوا	آمَنَّا	وَقَدْ	خَلَوْنَا	بِالْكَفْرِ	وَهُمْ	قَدْ	خَرَجُوا		
اور	جب	آتے ہیں	تیرے پاس	کہتے ہیں	ایمان لائے	اور	تحقیق	داخل ہوئے ہیں	ساتھ کفر کے	اور وہ	تحقیق	نکل گئے ہیں

اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر

بِهِ^ط وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ

بِهِ ^ط	وَاللَّهُ	أَعْلَمُ	بِمَا	كَانُوا	يَكْتُمُونَ	وَتَرَى	كَثِيرًا	مِّنْهُمْ
ساتھ اسکے	اور اللہ	خوب جانتا ہے	اس چیز کو کہ	تھے وہ	چھپاتے	اور	دیکھتا ہے تو	بہتوں کو ان میں سے

جاتے ہیں۔ اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے ﴿٦١﴾ اور تم دیکھو گے کہ ان میں

يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^ط لَبِئْسَ مَا

يُسَارِعُونَ	فِي	الْإِثْمِ	وَالْعُدْوَانِ	وَأَكْلِهِمُ	السُّحْتِ ^ط	لَبِئْسَ	مَا
جلدی کرتے ہیں	بچ	گناہ کے	اور	تعدی کے	اور انکے کھانے کے	حرام کو	البتہ برا ہے

اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ بیشک یہ جو کچھ کرتے ہیں

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ

كَانُوا	يَعْمَلُونَ	لَوْلَا	يَنْهَاهُمُ	الرَّبُّنِيُّونَ	وَالْأَحْبَارُ	عَنْ	قَوْلِهِمْ
وہ تھے	کرتے	کیوں	نہیں	منع کیا ان کو	درویشوں نے	اور	عالموں نے

برا کرتے ہیں ﴿٦٢﴾ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام

الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ^ط لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ

الْإِثْمِ	وَأَكْلِهِمُ	السُّحْتِ ^ط	لَبِئْسَ	مَا	كَانُوا	يَصْنَعُونَ	وَقَالَتِ
جھوٹ کو	اور ان کے کھانے کے	حرام کو	البتہ برا ہے	جو کچھ کہ	تھے وہ	کرتے	اور کہا

کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلاشبہ وہ بھی برا کرتے ہیں ﴿٦٣﴾ اور یہود

الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ^ط غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِيَّاهُ قَالُوا بَلْ

الْيَهُودُ	يَدُ	اللَّهِ	مَغْلُوبَةٌ ^ط	غَلَّتْ	أَيْدِيهِمْ	وَلَعْنُوا	إِيَّاهُ	قَالُوا	بَلْ
یہود نے	ہاتھ	اللہ کے	بند ہیں	بند کیے گئے ہیں	ہاتھ ان کے	اور لعنت کی گئی	بسبب اس چیز کے کہ	کہا انہوں نے	بلکہ

کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ جلیل ہے)۔ انہیں کے ہاتھ باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو

يَدَاهُ مَبْسُوطَتَيْنِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمَا مَآ						
يَدَاهُ	مَبْسُوطَتَيْنِ	يُنْفِقُ	كَيْفَ	يَشَاءُ	وَ	لَيَزِيدَنَّ
دو ہاتھ اٹکے	کشادہ ہیں	خرچ کرتا ہے	جس طرح	چاہتا ہے	اور	البتہ زیادہ کرے گا
بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح (اور جتنا) چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور (اسے محمد ﷺ) یہ (کتاب) جو تمہارے پروردگار کی						
أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ						
أَنْزَلَ	إِلَيْكَ	مِنَ	رَبِّكَ	طُغْيَانًا	وَ	كُفْرًا
اتارا آیا ہے	طرف تیری	سے	پروردگار تیرے	سرکش	اور	کفر
طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا۔ اور ہم نے ان کے باہم عداوت						
وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ						
وَالْبَغْضَاءَ	إِلَى	يَوْمِ	الْقِيَامَةِ	كُلَّمَا	أَوْقَدُوا	نَارًا
اور بغض	تک	دن	قیامت کے	جس وقت	جلاتے ہیں	آگ
اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں						
أَظْفَاهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ						
أَظْفَاهَا	اللَّهُ	وَ	يَسْعُونَ	فِي	الْأَرْضِ	فَسَادًا
بجھا دیتا ہے اس کو	اللہ	اور	دوڑتے ہیں	بچ	زمین کے	فساد کو
تو اللہ اس کو بچھا دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ فساد کرنے والوں کو						
الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا						
الْمُفْسِدِينَ	﴿٦٣﴾	وَلَوْ	أَنَّ	أَهْلَ	الْكِتَابِ	آمَنُوا
فساد کرنے والوں کو	اور	اگر	اہل	کتاب	ایمان لاتے	اور پرہیزگاری کرتے
دوست نہیں رکھتا ﴿٦٣﴾ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے						
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَادْخَلْتَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَهُمْ						
عَنْهُمْ	سَيِّئَاتِهِمْ	وَ	لَادْخَلْتَهُمْ	جَنَّاتُ	النَّعِيمِ	﴿٦٤﴾
ان سے	برائیاں ان کی	اور	البتہ داخل کرتے ان کو	بہشتوں میں	نعمت کے	اور اگر
ان کے گناہ جو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے ﴿٦٤﴾ اور اگر وہ						

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُومًا مِنْ							
التَّوْرَةَ	وَ	الْإِنْجِيلَ	وَ	مَا	أَنْزَلْنَا	إِلَيْهِمْ	مِنْ رَبِّهِمْ
توریت کو	اور	انجیل کو	اور	جو کچھ	اتارا گیا ہے	طرف ان کی	پروردگار ان کے
تورات اور انجیل کو اور جو (اور کتابیں) ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو تو تم رکھتے تو (ان پر رزق میں کی طرح برستا کہ)							
فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ							
فَوْقَهُمْ	وَ	مِنْ	تَحْتِ	أَرْجُلِهِمْ	مِنْهُمْ	أُمَّةٌ	مُّّقْتَصِدَةٌ
اوپر اپنے	اور	سے	نیچے	اپنے پاؤں کے	ان میں سے	ایک جماعت ہے	بچ کی راہ کی
اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ میانہ رو ہیں۔ اور							

مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

مِنْهُمْ	سَاءَ	مَا	يَعْمَلُونَ
ان میں سے	برا ہے	جو کچھ	کرتے ہیں
بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں ﴿٦٦﴾			